

آؤگنے کی پیداوار بڑھائیں لکی کوراندسٹریز کا کراپ پروگرام اپنائیں



LUCKY CORE INDUSTRIES

#JourneyOfEnrichingLives



گنے کی فصل کی اہمیت

پیداواری صلاحیت اور زرعی معیشت
میں بڑھوتری

گنے کی فصل پاکستان کی زرعی معیشت میں خاص اہمیت کی حامل ہے۔ رقبہ کے لحاظ سے گنے کا شمار گندم، کپاس اور چاول کے بعد ہوتا ہے۔ پاکستان میں گنا تقریباً 30 لاکھ ایکڑ پر کاشت کیا جاتا ہے۔ گنا پیدا کرنے والے ممالک میں رقبہ کے لحاظ سے پاکستان پانچویں اور چینی کی پیداوار کے اعتبار سے ساتویں نمبر پر ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے نتیجے میں چینی اور کماد سے بننے والی اشیاء کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں 99 فیصد چینی گنے سے حاصل کی جاتی ہے۔ پاکستان میں چینی پیدا کرنے والے کارخانوں کی پیداواری صلاحیت کافی زیادہ ہے مگر گنے کی کم پیداوار کے باعث ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جدید سفارشات پر عمل کر کے اور تھوڑی سی توجہ اور وسائل کے مناسب استعمال سے گنے کی پیداوار اور آمدنی میں اضافہ کیا جائے۔

پیداوار میں اضافہ کیلئے اہم عوامل

- ▶ زمین کا انتخاب اور تیاری
- ▶ منظور شدہ زیادہ پیداواری اقسام کے بیج کا انتخاب
- ▶ شرح بیج، وقت کاشت
- ▶ کیمیائی کھادوں اور غذائی اجزاء کا مناسب استعمال
- ▶ جڑی بوٹیوں کی بروقت تلفی
- ▶ بروقت آب پاشی
- ▶ گوڈی، نلانی مٹی چڑھانا
- ▶ نقصان دہ کیڑوں اور بیماریوں سے مؤثر بچاؤ
- ▶ بروقت برداشت



میٹولاگوڈ

کسان کا دوست۔۔۔ میٹولاگوڈ

میٹولاگوڈ جڑی بوٹیوں کے پودوں کی نئی کونپلوں یا نکلتی ہوئی جڑوں میں جذب ہو کر اثر انداز ہوتا ہے۔
اس طرح جڑی بوٹیاں اگنے سے پہلے، اگنے کے وقت یا اگنے کے فوراً بعد ختم ہو جاتی ہیں۔

میٹولاگوڈ کی نمایاں خصوصیات

ڈیلا، سوانگی، اٹ سٹ اور کماد میں موجود

دیگر جڑی بوٹیوں کا خاتمہ

جڑی بوٹیوں پر لمبے عرصے کا کنٹرول

گوڈی چوکی کی پریشانی سے نجات

فصل کو خوراک کی اجزاء کی بھرپور فراہمی سے پیداوار میں اضافہ

استعمال میں نہایت آسان



سفارشات برائے استعمال

مقدار فی ایکڑ

1000 ملی لیٹر

فصل

گنا

فُل کنٹرول

جڑی بوٹیوں سے مکمل نجات

فُل کنٹرول ایک وسیع دائرہ اثر رکھنے والا جڑی بوٹی مارزہر ہے۔ یہ دو مختلف زہروں پر مشتمل پراڈکٹ ہے جو تیزی سے جذب ہو کر جڑی بوٹیوں پر کنٹرول فراہم کرتا ہے۔ یہ چوڑے پتے، گھاس نما اور ڈیلا خاندان کی جڑی بوٹیوں کے مؤثر تدارک کیلئے خاص زہر ہے۔ فُل کنٹرول جڑی بوٹیوں کے پتوں اور جڑ کے ذریعے جذب ہو کر پودے میں کلوروفل بنانے کے عمل کو روک دیتا ہے جس سے جڑی بوٹیاں مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔

فُل کنٹرول کی نمایاں خصوصیات

- ▶ فُل کنٹرول دو مختلف طاقتور زہروں پر مشتمل پراڈکٹ ہے
- ▶ فُل کنٹرول وسیع دائرہ اثر کی حامل خصوصیات کی بنا پر چوڑے پتے، گھاس نما اور ڈیلا خاندان کی جڑی بوٹیوں پر یکساں کنٹرول فراہم کرتا ہے
- ▶ فُل کنٹرول اپنے دوہرے عمل یعنی پتوں اور جڑوں سے سرائیت پذیر ہونے کی بدولت جڑی بوٹیوں کا مکمل خاتمہ کرتا ہے
- ▶ فُل کنٹرول زمین میں موجود خورد بینی جانداروں کیلئے بے ضرر ہے
- ▶ فُل کنٹرول ایک ماحول دوست جڑی بوٹی مارزہر ہے
- ▶ فُل کنٹرول سے جڑی بوٹیوں پر دیر پا اور مکمل کنٹرول حاصل ہوتا ہے



فرٹی ہیوما

پوٹاش کی اضافی طاقت کے ساتھ



فرٹی ہیوما نہ صرف فصل میں ہر قسم کے موسمی حالات، دباؤ اور بیماریوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے بلکہ وہ تمام خوراک کی اجزاء حاصل کرنے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے جو پودے کو زندہ رہنے اور بہتر بڑھوتری کیلئے درکار ہیں۔

فرٹی ہیوما کی نمایاں خصوصیات

فرٹی ہیوما کا استعمال زمین کو نرم اور بھر بھرا کرتا ہے جس سے پودے کا اگاؤ بہتر ہوتا ہے

فرٹی ہیوما زمین کے کیمیائی تعامل (pH) کو معتدل کرنے میں مدد دیتا ہے

فرٹی ہیوما زمین میں نمی برقرار رکھنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے جس سے فصل پانی کی کمی کا شکار نہیں ہوتی

فرٹی ہیوما زمین میں نامیاتی مادے کی کمی پوری کرتا ہے جس سے زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہوتا ہے

فرٹی ہیوما پودے کو زمین سے خوراک کی اجزاء حاصل کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے جس سے پودوں کی

جڑیں اور تنے مضبوط ہو جاتے ہیں

فرٹی ہیوما زمینی نقصان دہ پھپھوندی (Harmful Fungus) کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے اور

فائدہ مند خوردبینی جانداروں (Beneficial Micro-organisms) کے کام کرنے کی صلاحیت

میں اضافہ کرتا ہے



سفارشات برائے استعمال

وقت استعمال	مقدار استعمال
زمین کی تیاری کے وقت استعمال کریں	8 کلوگرام فی ایکڑ

زنگرین

فصل کی بھرپور نشوونما اور بہترین
پیداواری کوالٹی کیلئے



زنک کی کمی کی وجہ سے پودوں میں خوراک تیار کرنے کا عمل متاثر ہوتا ہے اور مختلف غذائی اجزاء کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی میں بھی دشواری ہوتی ہے۔ پودوں کا قد اور پتوں کا سائز چھوٹا رہ جاتا ہے۔

فصل کی تیاری اور پیداوار میں خاطر خواہ کمی ہو جاتی ہے۔ فصل سے بہتر پیداوار لینے کیلئے زنک کی بہت اہمیت ہے۔ زنک کے استعمال سے پودوں کی بڑھوتری بہتر ہوتی ہے۔

زنگرین کے استعمال سے پودے سرسبز و شاداب رہتے ہیں، پودوں میں خوراک بنانے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ زنگرین کی بدولت گنے کی فصل میں شگوفوں کی تعداد، سائز اور پیداواری کوالٹی بھی بہتر ہو جاتی ہے۔

زنگرین کی نمایاں خصوصیات

زنگرین دانے دار ہونے کی بدولت چھٹہ کرنے میں آسان ہے

زنگرین پانی میں آسانی سے حل پذیر ہونے کی بدولت فصل کو فوری دستیاب ہو جاتا ہے

زنگرین میں موجود زنک سلفیٹ کی کوالٹی کمی کو رائڈسٹریز کی ضمانت کے ساتھ اور فصلوں کی ضرورت

کے مطابق پوری مقدار میں موجود ہے

زنگرین کے استعمال سے گنے کے سائز اور وزن میں اضافہ ہوتا ہے

زنگرین کے استعمال سے گنے کی پیداواری کوالٹی بھی بہتر ہوتی ہے



سفارشات برائے استعمال

وقت استعمال

پہلے پانی پر چھٹہ کریں

مقدار استعمال

7.5 کلوگرام فی ایکڑ

LCI
IMPORTED & DISTRIBUTED BY
LUCKY CORE INDUSTRIES LIMITED

فرٹی کے 50

فصلوں کی بہتر کوالٹی اور پیداوار میں معاون

پوٹاش پودوں کی خوراک کا لازمی جزو ہے۔ پودوں کو بڑھوتری اور افزائش نسل کے لئے پوٹاش کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے۔ پوٹاش پودوں سے پانی کا اخراج کنٹرول کرتا ہے اور قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ غذائی اجزاء اور توانائی کی ترسیل میں پوٹاش کا انتہائی اہم کردار ہوتا ہے۔

فرٹی کے 50 کی نمایاں خصوصیات

- فرٹی کے 50 پانی میں حل پذیر کھاد ہے جس میں پوٹاش کے علاوہ سلفر کی اضافی مقدار بھی موجود ہے جو پودے کی افزائش، طاقت اور پیداوار کے لئے ضروری ہے
- فرٹی کے 50 پتوں میں ضیائی تالیف (Photosynthesis) کے عمل سے بننے والی خوراک کو پودے کے دوسرے حصوں تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے
- فرٹی کے 50 نقصان دہ نمکیات مثلاً کلورائیڈ سے مکمل پاک ہے لہذا اس کے استعمال سے فصل یا زمین پر کوئی برا اثر نہیں ہوتا
- فرٹی کے 50 کے استعمال سے گنے کے سائز، تعداد اور کوالٹی میں اضافہ ہوتا ہے

سفارشات برائے استعمال

مقدار استعمال	وقت استعمال
10 کلوگرام	پہلی دفعہ: جب فصل 60 سے 70 دن کی ہو جائے تو فلد کریں دوسری دفعہ 30 دن کے وقفے سے دوبارہ فلد کریں تیسری دفعہ 30 دن کے وقفے سے فلد کریں



شواجن

50 فیصد ڈبلیو پی

کرے بیماریوں کا علاج
اور رکھے فصل کو تندرست و توانا

شواجن کی نمایاں خصوصیات

➤ **شواجن** دو منفرد پھپھوندی کش زہروں پر مشتمل کیمیا۔ بیماریوں کی موثر روک تھام

➤ **شواجن** حفاظتی اور معالجاتی دونوں مقاصد کیلئے یکساں موزوں

➤ **شواجن** فصلوں کو دے زنک اور مینگانہ کی اضافی طاقت

➤ **شواجن** کے استعمال سے فصل سرسبز و شاداب

➤ **شواجن** کے استعمال سے فصل کی پیداوار اور کوالٹی دونوں میں اضافہ ہوتا ہے



میکسل

اگیتا اور چھیتا جھلساؤ کا مکمل خاتمہ

میکسل دو منفرد زہروں پر مشتمل بہترین پراڈکٹ ہے۔ یہ پودے کی سطح پر حفاظتی تہہ بنا کر پھپھوندی کے سپورز کے اُگاؤ کو روک کر بیماری کو کنٹرول کرتا ہے۔

میکسل کی نمایاں خصوصیات

حفاظتی اور معالجاتی اثر سے بیماریوں کا مکمل خاتمہ

پتوں اور جڑوں سے جذب ہونے کی صلاحیت کی وجہ سے فصل بیماریوں سے محفوظ

سراستیت پذیری کی وجہ سے بیماریوں کے پھیلاؤ کی روک تھام

فصل سرسبز و شاداب



نوٹس

نقصان دہ کیڑوں کے خلاف مؤثر زہر



نوٹس ایک وسیع دائرہ اثر والا کیڑے مار زہر ہے۔ **نوٹس** کا تعلق فینائل پائیرازول گروپ سے ہے۔ جو کہ نقصان دہ کیڑوں مثلاً تنے کی سنڈیوں، پلانٹ ہارپرلمسی اور شکمی طریقہ اثر سے حملہ کرتا ہے اور کیڑوں کے اعصابی نظام کو متاثر کر کے ان کی موت کا باعث بنتا ہے۔

نوٹس کی نمایاں خصوصیات

نوٹس تنے کی سنڈی اور پلانٹ ہارپرکامل خاتمہ کرتا ہے

نوٹس اپنی سراسریت پذیری کی بدولت پودے کے تمام حصوں پر موجود کیڑوں کو ہلاک کر دیتا ہے

نوٹس ایک موثر اور دیرپا کنٹرول فراہم کرنے والا زہر ہے

نوٹس فصل کو سرسبز و شاداب رکھتا ہے

نوٹس لیکوڈ اور دانے دار دونوں حالتوں میں دستیاب ہے



اینڈی جنگ

موثر اور دیرپا کنٹرول

اینڈی جنگ ایک جدید اور وسیع دائرہ عمل والا منفرہ کیڑے مارزہ ہے جو کہ اپنے لمبی اور شکیلی طریقہ اثر سے کیڑوں کے عمل تنفس اور اعصابی نظام پر اثر انداز ہو کر ان کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔

اینڈی جنگ کی نمایاں خصوصیات

اینڈی جنگ ایک وسیع دائرہ عمل والا کیڑے مارزہ ہے

اینڈی جنگ اپنی سرایت پذیری کی بدولت پودوں کے تمام حصوں پر موجود کیڑوں کا خاتمہ کرتا ہے

اینڈی جنگ ایک موثر اور دیرپا کنٹرول فراہم کرنے والا بہترین کیمیا ہے

اینڈی جنگ کے استعمال سے فصل سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے

اینڈی جنگ بارش کے بعد اپنا اثر برقرار رکھتا ہے



تارپیڈو

تارپیڈو اپناؤ
سنڈیوں کو مکاؤ



تارپیڈو آرگینو فاسفیٹ گروپ میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا زہر ہے۔ یہ لمسی، ٹنکمی اور بخارات کی صورت میں کیڑوں تک پہنچ کر ان کے اعصابی نظام کو تباہ کر کے ان کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ یہ پودے کی ویکسی تہہ میں جذب ہو جاتا ہے۔ لہذا نقصان دہ کیڑے جہاں بھی ہوں اس کے اثر سے بچ نہیں سکتے۔

تارپیڈو کی نمایاں خصوصیات

▶ **تارپیڈو** ایک وسیع دائرہ عمل والا کیڑے مار زہر ہے

▶ **تارپیڈو** پتوں اور زمین میں جڑوں کے ذریعے سے جذب ہو کر کیڑوں

کا خاتمہ کرتا ہے

▶ **تارپیڈو** تیزی سے اثر کرنے والا کیڑے مار زہر ہے

▶ **تارپیڈو** کے استعمال سے فصل پر مضر اثرات مرتب نہیں ہوتے

▶ **تارپیڈو** کا اثر بارش اور تیز دھوپ سے بھی زائل نہیں ہوتا



اسپرے اور برداشت کے درمیان وقفہ (PH) 21 دن

سفارشات برائے استعمال

فصل	نقصان دہ کیڑے	مقدار فی ایکڑ
گنا	تنے کی سنڈیاں	1000 ملی لیٹر

مرحلہ وار منجمنٹ

مستلہ	بجائی کا مرحلہ	اُگاؤ کا مرحلہ	جھاڑ بننے کا مرحلہ	گنا مکمل ہونے کا مرحلہ	گنا پکنے کا مرحلہ
رتاروگ		شواجن / میکسل 50 فیصد بیوی 72 فیصد بیوی			
جرّی بوٹیاں		میٹولاگوڈ 960 ای سی	فل کنٹرول 50 فیصد بیوی	میٹولاگوڈ 960 ای سی	
بوررز		نوٹس 0.4 فیصد	نوٹس 5 فیصد ای سی	اینڈی چنگ / تارپیڈو 18 فیصد ای سی 40 فیصد ای سی	
خورا کی اجزاء کی فراہمی	فرٹی ہیوما	زنگرین	فرٹی میکرو	فرٹی کے 50	



کی کورا انڈسٹریز لمیٹڈ۔ ایگری سائنسز
 63- مزنگ روڈ لاہور۔
 ہیلپ لائن: 0800-73337

